

کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر والدین کو ملنے جاسکتی ہے
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا میں اپنی بیوی کو اس کے والدین کو ملنے سے روک سکتا ہوں؟ کیونکہ ہر وقت میں اسے اجازت نہیں دے سکتا اور کیا میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے مجھ سے اجازت لے۔ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کو مل سکتی ہے؟

سائل: صدام فرام برمنگھم -انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

کوئی اور مانع شرعی نہ ہو تو شوہر اپنی بیوی کو اس کے والدین سے ملنے کے لیے نہیں روک سکتا اور عورت دن بھر کے لیے ہفتہ میں ایک بار اپنے ماں باپ کو ملنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جاسکتی ہے۔ اگرچہ مرد منع کرے مگر رات اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔

درمختار مع ردالمحتار میں ہے کہ "فَإِنْ قَبِضَتْهُ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا لِحَقِّ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا أَوْ لَزِيَارَةِ أَبْوَيْهَا كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً أَوْ الْمَحَارِمِ كُلِّ سَنَةٍ أَيْ فَتَخْرُجُ بِلَا إِذْنِهِ.. لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَدَنَ كَانَا عَاصِيَيْنِ"

اگر اس نے مہر پر قبضہ کر لیا تو اب بلا اجازت نہیں جاسکتی مگر صرف ماں باپ کی ملاقات کو ہر جمعہ میں ایک بار دن بھر کے لیے جا سکتی ہے اور محارم کے یہاں سال بھر میں ایک بار ملنے بغیر اجازت کے بھی جاسکتی ہے اور محارم کے علاوہ اور رشتہ داروں میں نہیں جاسکتی اور اگر شوہر نے اجازت دی تو دونوں گنہگار ہوئے۔

["الدرالمختار" ، کتاب النکاح ، باب المہر ، ج ۴ ، ص ۲۸۶]

اور بہار شریعت میں ہے کہ اور جب مہر وصول کر لیا تو اب بلا اجازت نہیں جاسکتی مگر صرف ماں باپ کی ملاقات کو ہر ہفتہ میں ایک بار دن بھر کے لیے جا سکتی ہے ۔

[بہار شریعت ج 2 حصہ 7 ص 77]

والله اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

CAN A WOMAN VISIT HER PARENTS WITHOUT HER HUSBAND'S PERMISSION?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION: What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Can I stop my wife from meeting her parents? I cannot allow her (to visit them) every time. Can I ask her to seek permission from me to visit her parents? Can a woman visit her parents without her husband's permission?

Questioner: Saddam from Birmingham, UK.

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

If there is no shari'i (legal) interdict, a man cannot stop his wife from meeting her parents. A woman can visit her parents for an entire day during the week even without her husband's permission or even if he stops her. However, she must spend the night at her husband's home only.

It is mentioned in al-Durr al-Mukhtar:

"فَإِنْ قَبِضَتْهُ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا لِحَقِّ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا أَوْ لَزِيَارَةِ أَبْوَيْهَا كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً أَوْ الْمَحَارِمِ كُلِّ سَنَةٍ أَيْ فَتَخْرُجُ بِلَا إِذْنِهِ..لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَيْنِ"

"If she has acquired her mahr (bride money), she cannot go out without permission, except to meet her parents every Friday, for the entire day. She can visit other maharim (unmarriageable kin) once in a year, without permission. She cannot visit relatives other than her maharim. If the husband grants her permission (to visit non-maharim), both of them will be sinners."

[al-Durr al-Mukhtar, Kitab al-Nikah, Bab al-Mahr, vol. 4, pg. 286]

It is mentioned in Bahar-e Shari'at:

"If she has acquired her mahr, she cannot go without permission, except to meet her parents for an entire day during the week."

[Bahar-e Shari'at, vol. 2, part 7, pg. 77]

والله اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by the SeekersPath Team